



Al Barakaat Public School(+2)

(Affiliated to CBSE, New Delhi)

Summer Holiday Home Work (2018-19) Class-VI

ENGLISH	HINDI
<ul style="list-style-type: none">Read a story from any story book and write its summary, in your own words.Write briefly on 'How I spend my vacations.'Complete worksheet number 6 and 8 in your work book.Communicate in English with family and friends and enjoy the experience.	भाषा की परिभाषा तथा उसके दोनों रूपों का उदाहरण सहित विस्तृत वर्णन कीजिए।
URDU	SCIENCE
(الف) درج عنوانات پر کم از کم دس جملے لکھئے۔ (۱) سچائی اور ایمانداری (۲) ہمارا اسکول (ب) اپنی درسی کتاب سے روزانہ ایک صفحہ بیس دنوں تک نقل کریں۔ اپنے والدین کو دکھائیں۔ جن غلطیوں کی وہ نشاندہی کریں ان کو درست کریں اور اپنے والدین / سرپرست کے دستخط مع تاریخ درج کرائیں۔	1. Collect any five plant fibre and paste it in your science notebook. Write the name of their sources and their uses. 2. Name different types of deficiency diseases, their symptoms and their treatments to cure. Paste few pictures related to it.
SOCIAL SCIENCE	
History <ul style="list-style-type: none">Paste picture and write on the monuments which are in danger in India of Medieval Period. (at least 4 monuments). Civics <ul style="list-style-type: none">Write an essay on Government, what are the different types of governments. Give special focus on any three types of government with example (give at least 2 examples of each) Geography <ul style="list-style-type: none">On the political map of India Mark 29 states with their capitals.In India we have 7 Union Territories. Find out information about each territory and include some pictures also. (if possible).	

MATHEMATICS

- Place commas correctly and write the numerals:
 - Seventy three lakh seventy three thousands seven hundred seventy seven.
 - Nine crore eighty nine lakh sevnty nine thousand sixty-four.
- Insert commas suitably and write the names according to Indian System and International system of Numeration:
 - 99900046
 - 8546283
 - 48049831
 - 7452283
- Estimate the following by rounding off each factor to nearest hundreds:
 - 730 + 998
 - 796 – 314
 - 505 + 728
 - 630 – 189

P.T.O.



Al Barkaat Public School(+2)

(Affiliated to CBSE, New Delhi)

Summer Holiday Home Work (2018-19) Class-VI

::2::

4. Estimate the following by rounding off each number to its greatest place:
(a) $439 + 334 + 4,317$ (c) $8,325 - 491$
(b) 898×785 (d) 87×317
5. Find the estimated quotient for each of the following by rounding off each number to greatest place:
(a) $878 \div 28$ (b) $745 \div 24$ (c) $4489 \div 394$
6. Write the following in roman numerals:
(a) 72 (b) 98 (c) 92 (d) 175
7. Write the following in Hindu-Arabic numerals:
(a) XCIX (b) LXXXIX (c) CLXV (d) CLXVIII
8. Write the successor of:
(a) 1099999 (b) 208090 (c) 7654321 (d) 10000
9. Write the predecessor of:
(a) 7240930 (b) 89 (c) 7960 (d) 63
10. Find
(a) $8 \times 1769 \times 125$
(b) $2 \times 1650 \times 50$
11. Find the sum by suitable rearrangement:
(a) $837 + 208 + 363$ (b) $1964 + 457 + 1536 + 643$
12. Find the value of the following:
(a) $689 \times 18 + 689 \times 2$ (b) $13225 \times 169 - 13225 \times 69$
13. Find the product using suitable properties:
(a) 749×102 (b) 258×1008 (c) 1005×168 (d) 101×2089
14. Write all the factors of the following numbers:
(a) 12 (b) 20 (c) 36 (d) 23
15. Write first 10 multiples of:
(a) 5 (b) 12 (c) 18 (d) 20
16. The distance between the school and the house of a student's house is 2 Km 875 m. Everyday she walks both ways. Find the total distance covered by her in six days.
17. Find the difference between the greatest and the least number that can be written using the digits 6, 2, 8, 4, 3 each only once.
18. Shekhar is a famous cricket player. He has so far scored 6980 runs in test matches. He wishes to complete 10,000 runs. How many more runs does he need?
19. Population of Sundarnagar was 2,35,471 in the year 1991. In the year 2001 it was found to be increased by 72,958. What was the population of the city in 2001?
20. A student multiplied 89720 by 65 instead of multiplying by 56. By how much was his answer greater than the correct answer?

Mathematics Lab Manual

1. Do Activity – 2 on page number 7.
2. Do Activity – 3 on page number 8.
